




زندگی کی مشکلات سے گھبرانا نہیں

ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہئیے

Hina Shahid Official 🙏❤️



بلاگ: مشکلات سے گھبرانا نہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا  
حیاتیہ  
تحریر: حناء شاہد

Posted On : Hina Shahid Official

Category: Blog

Welcome to Hina Shahid Official – A Poetic  
:Haven

Embark on a journey into the eloquent world of poetry and insightful articles at Hina Shahid Official. This digital sanctuary is dedicated to weaving words into emotions, offering a collection .of poignant verses and thought-provoking articles

Immerse yourself in the enchanting realm of poetry, where emotions dance gracefully across

verses, painting vivid pictures with the strokes of words. Explore our articles, each a narrative .crafted to inspire contemplation and reflection

At Hina Shahid Official, we transcend the ordinary, embracing the beauty of language to create a space that resonates with lovers of poetry and seekers of profound insights. Join us in this literary adventure, where every line is a whisper of the soul, and every article a captivating exploration of .life's intricacies

Indulge in the magic of words, where poetry and articles converge to offer a unique and enriching experience. Welcome to Hina Shahid Official – .where literature comes alive in verse and prose

خوش آمدید ہے حناء شاہد آفیشل - ایک  
شاعرانہ معاصر:

حناء شاہد آفیشل پر خیالات بھرے شاعری  
اور فہم سے بھرپور مضامین کی دنیا میں سفر  
کریں۔ یہ ڈیجیٹل مقدس جگہ الفاظ کو جذبات  
میں بنانے میں مصروف ہے، جو دلچسپ  
غزلیات اور دلچسپ مضامین کا مجموعہ  
فراہم کرتا ہے۔

اپنے آپ کو شاعری کے حسین باغ میں سیر  
کروائیں، جہاں جذبات کسی بھی بلندی تک لذت  
سے چھلے جاتے ہیں، الفاظ کی مہارتوں کے زیر اثر رنگین  
تصاویر کو چھپاتے ہیں۔ ہمارے مضامین کا کھلم کھلا  
مطالعہ کریں، ہر ایک ایک قصہ وہی ہے جو  
خیالات کو بھڑکانے اور تفکر میں مبتلا کرنے کے  
لیے بنایا گیا ہے۔

حناء شاہد آفیشل پر، ہم عام سے باہر جاتے ہیں، زبان کی خوبصورتی کو قبول کرتے ہیں تاکہ ایک جگہ پیدا ہو سکے جو شاعری کے دلداروں اور عمق کی تلاشوں سے گونجتی ہے۔ ہمارے ساتھ مل کر اس ادبی سفر میں شامل ہوں، جہاں ہر لائن روح میں رچ بس جاتی ہے، اور ہر مضمون زندگی کی پیچیدگیوں کی دلچسپ خصوصیات سے بھرا ہوا ہے۔

الفاظ کے جادو کا لطف اٹھائیں، جہاں شاعری اور مضامین ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں تاکہ ایک مختلف اور ثریاتی تجربے کا حصہ بن سکیں۔

خوش آمدید! حناء شاہد آفیشل

جہاں ادب حقیقت اور مصرعے میں زندگی کو پالینے کا جذبہ فراہم کرتا ہے۔

Hina Shahid Official start a journey for all social media writers to publish their writes. Welcome to

all Writers , test your writing abilities. They write romantic novels, forced marriage , hero police officer based urdu novels, very romantic urdu novels, full romantic urdu novels, urdu novels, best romantic urdu novels, full hot romantic urdu novels, famous urdu novels, romantic urdu novels list, romantic Urdu Novels of all, Best Urdu .Romantic Novels

بلاگ: مشکلات سے گھبرانا نہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا  
چاہیے  
تحریر: حناء شاہد

.is available here to online reading

   Give your feedback Plz

ان سب ویب بلاگ، یوٹیوب چینل، اور ایپ والوں کو  
تنبیہ کی جاتی ہے کہ اس بلاگ کو چوری کر کے پوسٹ  
کرنے سے باز رہیں ورنہ ادارہ حناء شاہد آفیشیل اور  
رائیٹرز ان کے خلاف ہر طرح کی قانونی کارروائی کرنے  
کے مجاز ہوں گے۔

Copyright Reserved By Hina Shahid Official

بلاگ پڑھنے کے بعد ویب کو منٹ بوقت میں اپنا  
تبصرہ پوسٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو یہ بلاگ  
کیسا لگا اور حناء شاہد آفیشیل کی یہ کاوش کتنی پسند آئی  
ہے؟ شکر یہ۔ آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار  
رہے گا۔

Note: All copyrights are reserved by Hina Shahid  
Official. So don't reupload my material on any  
other Platform. If Anyone will try to use my  
.content Then They will face a strike in that case

We are Constantly working hard on making the [www.hinashahidofficial.com](http://www.hinashahidofficial.com) website Better & more entertaining for you. we need your constant support to get going. Please feel free to comment box for any queries / Suggestions / problems or if you just want to say hi. we would love to hear from you. if you have enjoyed the Poetry Articles & Romantic Novel's please don't forget to like , share .& comment's

---

**Disclaimer:** This website does not promote or encourage any illegal activities . All the contents provided by this website ;

[www.hinashahidofficial.com](http://www.hinashahidofficial.com)

.Is meant for educational perpose only

---



,justpoetry

,justpoetry

,UrduShairy

,BestUrduPoetry

,BestUrdupoetryCollection

بلاگ: مشکلات سے گھبرانا نہیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا  
چاہئے

تحریر: حناء شاہد

مشکلات انسانی زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ ہر شخص کی زندگی  
میں مختلف مشکلات آتی ہیں، جن کا سامنا کرنا اور ان کا  
حل تلاش کرنا اہم ہوتا ہے۔ مشکلات کے سامنے ہمیں  
گھبرانا نہیں بلکہ ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔

اصولیت

مشکلات کا حل تلاش کرنے کا اہم اصول یہ ہے کہ ہمیں ان سے گھبرانا نہیں۔ گھبراہٹ اور پیچیدگی مشکلات کو حل کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں۔

## مثالیں

کبھی کبھار مشکلات سے نمٹنا مشکل ہوتا ہے، لیکن ایک بار جب آپ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ معجزے دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک شخص جو مالی مشکلات کا سامنا کر رہا ہو، اگر وہ مایوس ہو کر گھر بیٹھ جائے تو اس کی مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ان کا حل تلاش کرنے کے لئے کوشاں ہو، تو اس کے لئے نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔

## اعتماد

مشکلات کا مقابلہ کرنے کیلئے اعتماد زندگی کا ایک اہم جزو ہے۔ اگر آپ اپنے اندر موجود قدرتی صلاحیتوں پر اعتماد کریں تو آپ کسی بھی مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

## منصوب بندی

مشکلات کا مقابلہ کرتے وقت ایک مضبوط پلاننگ /  
منصوب بندی بنانا اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک  
منصوب بندی بنالیں تو مشکلات حل کرنا آسان ہو  
جاتا ہے۔

## نتیجہ

مشکلات سے گھبرانا نہیں، بلکہ مشکلات کا مقابلہ کرنا زندگی  
کا حصہ ہے۔ جب ہم مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہم اپنی  
قدرتی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں، نیا علم حاصل  
کرتے ہیں، اور مضبوط اور کامیاب افراد بنتے ہیں۔

Facing difficulties should not make us anxious;  
instead, we should confront them with  
.determination

Difficulties are a part of human life. Every person encounters different challenges in life, and it is important to face them and find solutions. Instead of getting anxious in the face of difficulties, we should confront them

### :Principle

An important principle in finding solutions to problems is not to get anxious about them. Anxiety and confusion affect our ability to solve problems

### :Examples

Sometimes dealing with difficulties can be tough, but once you decide to confront them, you witness miracles. For example, a person facing financial troubles, if they sit at home feeling hopeless, their problems can worsen. But if they face their

problems and actively seek solutions, new paths

.open up for them

:Confidence

Confidence is an important aspect of dealing with difficulties in life. If you have confidence in your

.natural abilities, you can tackle any problem

:Planning

Creating a strong strategy is important when dealing with difficulties. If you devise a plan,

.solving problems becomes easier

:Result

Instead of getting anxious about difficulties, confronting them is part of life. When we face difficulties, we recognize our strengths, gain new

knowl

edge, and become strong and successful  
.individuals

❤️ 📖 Thanks for Reading This Blog